

## 65 سال سے کم عمر کے بچے اور بالغ افراد

این جے فیملی کیئر این جے کے مکینوں کے لیے سرکاری امداد یافتہ صحت کا بیمہ ہے۔ یہ مفت یا کم خرچ پر معیاری نگہداشت صحت فراہم کرتا ہے۔ این جے فیملی کیئر پروگرام میں CHIP، میڈیکائیڈ، اور میڈیکائیڈ ایکسپنشن پاپولیشنز شامل ہیں۔

### اس میں کس چیز کا احاطہ ہے؟

این جے فیملی کیئر ریاست کے ذریعہ فراہم کردہ صحت کے منصوبوں کے ذریعہ نگہداشت صحت کا مکمل احاطہ فراہم کرتا ہے۔ این جے فیملی کیئر نگہداشت صحت کی زیادہ تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے بشمول:

- ڈاکٹر سے ملاقاتیں
- ایکسریز
- ہسپتال میں بھرتی
- ہسپتال سے ملاقاتیں
- نسخے
- دانت کا علاج
- اسپیشلسٹ سے ملاقاتیں
- لیباریٹری جانچیں

### کون اہل ہے؟

این جے کے کسی بھی عمر کے اہل مکین این جے فیملی کیئر کے اہل ہوسکتے ہیں۔ اس میں بچے، والدین، نگران رشتہ دار، اور ایسے بالغ افراد جن کے منحصرین نہیں ہیں۔ اہلیت آمدنی اور گھرانے کی جسامت پر مبنی ہوتی ہے جس کی اطلاع درخواست دہندہ کے تازہ ترین وفاقی ٹیکس ریٹرن میں دی گئی تھی۔ البتہ، این جے فیملی کیئر معلومات کی تصدیق کے لیے دیگر ذرائع کا بھی استعمال کرسکتا ہے، جیسے کہ ادائیگی کی رسیدیں۔ بچوں کے لیے اہلیت والی آمدنی بالغوں کے لیے اہلیت والی آمدنی سے زیادہ ہے۔ (چارٹ دیکھیں)

### اس میں کتنی لاگت آتی ہے؟

بہت سے لوگوں کے لیے، این جے فیملی کیئر کی کوئی لاگت نہیں ہوگی: کوئی ماہانہ قسط یا معاون ادائیگیاں نہیں ہیں۔ بچوں والے زیادہ آمدنی والے خاندانوں کے لیے معاون ادائیگیوں اور ماہانہ اقساط کا ایک تدریجی پیمانہ ہے۔

### کیا اس میں کوئی پابندیاں ہیں؟

پہلے سے موجود حالات کا اہلیت پر اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ تر معاملات میں، بچوں کے اہل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 مہینوں سے بغیر طبی بیمہ کے ہوں۔ کیونکہ اس میں استثنائت ہیں، لہذا بہتر ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو این جے فیملی کیئر کو کال کریں۔ بالغوں کے اہل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم پانچ سالوں کی مستقل قانونی رہائش والے ہوں۔ بچے اور حاملہ خواتین، یو ایس میں اپنے داخلے کی تاریخ سے قطع نظر ایسی صورت میں اہل ہوسکتے ہیں اگر وہ قانون باشندے ہوں۔ بغیر دستاویز والے مکینوں کے لیے، ان کے بچے ایسی صورت میں اہل ہوسکتے ہیں اگر ان کی پیدائش یو ایس میں ہوئی ہو۔

### مزید معلومات کیسے حاصل کریں؟

یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ اہل ہیں، یا مزید معلومات کے لیے، ہمیں کال کریں یا ہماری ویب سائٹ دیکھیں۔

آن لائن درخواستیں [www.njfamilycare.org](http://www.njfamilycare.org)

1-800-701-0710

ٹی ٹی وائی 1-800-701-0720

(کثیر لسانی آپریٹرز دستیاب ہیں)

(سماعت میں نقص والے افراد کے لیے)

NJ FamilyCare قابل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی نژاد، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں برکتا۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو زبان سے متعلق مدد کی خدمات آپ کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ کال کریں 1-800-701-0710 (TTY: 1-800-701-0720)۔